اردو زبان میں اپنے طریقے کا پہلا

بولتا قاعدہ کی

PART-2

جسکو



شہزادہ کرنل نواب مکرم جاہ بہادر
کے
مطالعہ کا شرف حاصل ہے

مصنف: مولوی شیخ چاند محمد صاحب (بی اے)

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

حروفِ تہجی با ترتیب

ا ب پ ت ٹ ث

ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز

س ش ص ض ط ظ ع غ

ف ق ک گ ل م

ن و ہ ء ی ے

بـ پـ تـ ٹـ ثـ

سـ شـ صـ ضـ عـ غـ

خـ چـ حـ

گـ لـ مـ

فـ قـ

سبق ۱



لڑکا

سے

لڑ

پیڑ	تل	سر	رس	خط
جڑ	ہل	پر	بس	مت
شربت	اکبر	اقبال	گاجر	کاغذ

انار کا شربت پی لو آم کا رس
دے دو۔ بڑ کی جڑ نہ کاٹو۔ یہ دس
خط اکبر کو دو۔ گاجر کا اچار بنا لو

اِقبال کے سر پر ٹوپی ہے

Scanned by TapScanner

سبق ۲



گُڑیا

ــُـ

گ ُ ڑ

دُم	اُس	کُرتا	ارجن	ناخُن
تُم	رُک	اُڑا	سُنو	صابُن

اُس پُل تک چَل کر جاؤ ۔ بات سنو
رُک رُک کر نہ چلو ۔ ارجُن سے کہو
کوّے کو اڑا دے ۔ گائے کی دُم بڑی ہے
تم جاؤ گُڑیا کا کُرتا لے آؤ

صابُن سے ناخُن صاف کرلو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۳

چِڑیا

چِڑیا



دِن	ہِل	دِل	دِیا	مِلاؤ	صَادِق
گِن	مِل	دِلا	لِیا	ہِلاؤ	ذاکر

تم کو یہ آم کِس نے دیا؟ صادق کو جامُن لادو۔ یہ سب خط گِن لو دَال چَاول مِلا دو۔ ذاکر کو پانی پلاؤ دوات مت لاؤ

سب سے ہِل مِل کر رہو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۸

شامو

کِسان ۔ ہل



ہَل	سَن	کَل	دَس	کِسان
ہِل	سِن	مِل	دِن	ڈوری

یہ کِسان ہل چلاتا ہے ۔ شام تک
کام کرتا ہے ۔ سب سے ہِل مِل کر
رہتا ہے ۔ شامو اس کا لڑکا ہے
وہ سَن کی ڈوری بٹتا ہے

باپ کی بات دِل سے سُنتا ہے

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۵

تارا



نام مان ناک

پکا پلا بجا بتا چچا

گِنا کہا سُنا نرگس

تارا	تالا	سارا	جاگا	کاٹا	آیا
تارا	تالا	سارا	جاگا	کاٹا	آیا

تارا دال پکا۔ باجہ نہ بجا۔ دوا پلا
کہا مان۔ چچا کا کالا کوٹ لا۔ تارا کا
باپ چلا گیا۔ اُس کو بُلا کر یہ بات سُنا دو

نرگس دادا کا نام بتاؤ

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۶



ہاشم	گلاب	خراب	سلام	اُستاد
صاحب	بخار	عِلاج	دُکان	مزے دار

ہاشم کو بُخار ہے۔ اُس کو دوا پلا دو
وہ اناج کی دُکان ہے۔ جاؤ قلم دوات
لے آؤ۔ کاغذ خراب نہ کرو۔ گلاب کا
شربت مزے دار ہے اِسے پی لو

اُستاد صاحب کا ادب کرو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۲

موٹر



اِنجن



بول بوبو

تول تولو

روک روکو

توڑ توڑو

سوچ سوچو

موہن یہ موٹر ہے۔ وہ اِنجن ہے

تم جو چاہو لے لو۔ تم چاہو تو سوہن کو

اِنجن دو ۔ آم کم نہ تولو

موٹر چل رہی ہے۔ اسے لات نہ مارو

ذرا سوچ سمجھ کر بولو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۸

مُرغی



کُرسی




جلی	چلی	مِلی	نئی	گاڑی
گلی	گئی	گِری	دری	آئی
مالی	موری	مکڑی	درزی	کُرسی
خالی	دوڑی	لکڑی	وَردی	تُلسی

یہ باغ کا مالی ہے۔ اُس کا نام تُلسی ہے۔ دَرزی آیا۔ چچا کی وَردی لایا
کالی مُرغی مِل گئی۔ یہ کُرسی بڑی ہے
گلی میں موری ہے

بڑی آپا کی گاڑی آگئی

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۹



مُرغے

لڑکا آیا	مُرغا لڑا	بکرا دوڑا
لڑکے آئے	مُرغے لڑے	بکرے دوڑے
لڑکی آئی	مُرغی لڑی	بکری دوڑی

یہ مرغے بہت لڑے۔ ان کو الگ الگ کردو۔ لال مرغ جے رام کا ہے اُسے چوٹ آئی۔ موتی لال کے سب کپڑے سِل گئے۔ درزی آیا۔ اس کو سِلائی کے ۲ دو روپے دے دیئے

سبق ١٠

چیل

فقیر



تیر

عید
بیج

پیر
مُنیر

منیر آج پیر کا دن ہے

کل عید ہے۔ کسی کی چیز نہ لو

یہ تو ککڑی کا بیج ہے

وہ چیل اُڑ رہی ہے فقیر آیا

جمیل اُس کو قمیص دے دو

یہ کوٹ کِس نے سِیا

حقیر
جَمیل

چیز
قمیص

سِیا
پِیا

لِیا
دِیا

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۱۱







ظفر کمر

ادب بٹن سبق ہرن

الگ بدن پلاٹ سڑک

ظفر بٹن لگالو۔ کاغذ الگ الگ
کرو۔ یہ سڑک صاف ہے۔ نمک لا دو
چچا جان کا ادب کرو۔ دری کو پلٹ دو
ہرن کی کمر بہت پتلی ہوتی ہے

بدن صاف کرو۔ اپنا سبق یاد کرو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۱۲




دَرد	شُکر	حُکم	خُدا	وہی
جَلد	عُمر	گرم	اُگا	برسا

خُدا کا حُکم مانو۔ وہی ہم کو کھانا دیتا ہے وہی اناج اُگاتا ہے۔ وہی پانی برساتا ہے۔ یہ پانی بہت گرم ہے۔ گوپال کے پیر میں بہت دَرد ہے

اللہ کا شکر بجا لاؤ۔

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۱۳



سو	دوڑ	کون	توبہ	لوٹا
سو	دوست	کوٹ	تول	لوٹا
سُوت	دور	کوٹ	توُ	لوُٹا

سورج نِکلا سات بج گئے۔ اِسکول جاؤ۔ ٹوپی جوتا پہن لو۔ کوٹ نہ پہنو آج گرمی بہت ہے۔ نارائن ہمارا دوست ہے۔ اُسے جا کر بُلا لو۔ وہ تو آ رہا ہے

سڑک پر نہ دوڑو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۱۴



تیَر	پیَر	بَیل	مَیل	پیسہ
تیز	پیڑ	بِیل	میل	ایک
تیر	بیر	بیس	میل	تین

بطخ تیر رہی ہے۔ اُسے تیر نہ مارو
یہ بیل بہت تیز ہے۔ حسُین کے پیَر کو
چوٹ لگی ہے۔ اَنیس اِتنا تیز نہ چلو۔ دسؔ
پیسے کے بیر لا دو۔ سامنے سے فقیر آ رہا ہے

فقیر کو پانچ پیسے دو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۱۵

مینڈک ٹانگ پانچ



مان	دین	میں	ہاں	یہاں
ماں	دیں	ہیں	کہاں	وہاں
پان	جان	چاند	ٹانگ	ہوں
پانچ	جانچ	چونچ	بانگ	نہیں

ماں باپ کا کہا مانو۔ وہ جو دیں سو لو

آپ نے میری کتابیں کس کو دیں

مرغا بانگ دیتا ہے

میں نے آپ سے پیسے نہیں مانگے؟

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۱۶

کُتّا

لٹّو

چُنّو







اب با ابّا	گن نا گنّا	کُت تا کُتّا	بِل لی بِلّی
بچّے کچّے	لٹّو چُنّو	چکّی پکّی	رسّی ضِدّی

چُنّو بڑا نیک لڑکا ہے

اسے یہ لٹّو دو۔ یہ بچّے کِس کے ہیں

وہ بڑے ضِدّی ہیں۔ چکّی چل رہی ہے

یہ دو آم پکّے ہیں

باقی سب کچّے ہیں

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner


سبق ۱۷

ب - بھ	بھر	بھائی	بھول
پ - پھ	پھل	پھاٹک	پھول
ت - تھ	تھک	تھال	تھوڑا
ٹ - ٹھ	آٹھ	ٹھاٹھ	ٹھیک

بھائی تم دِن بھر پھرتے رہے ہو
تھک گئے ہو۔ یہاں بیٹھ کر ذرا
دم لے لو۔ تم نے یہ کچّے پھل کیوں
توڑے؟ انہیں پھینک دو۔ یہ
پھول تو بہت خوب صورت ہے


تھوڑا تھوڑا کر کے سبق یاد کر لو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner



بھالا

پھل





ہاتھ


آٹھ



جھاڑو



ڈھول



کھلونے



گھڑی



سبق ۱۸

ج - جھ	جھٹ	جھاڑ	جھیل
چ - چھ	چھت	چھال	چھوڑ
د - دھ	دودھ	آدھا	دھوپ
ڈ - ڈھ	ڈھب	ڈھال	ڈھول
ڑ - ڑھ	پڑھ	بوڑھا	پڑھو

آدھا دودھ تم لے لو۔ آدھا چھوڑ دو۔

ڈھول نہ بجاؤ

وہ بوڑھا پیڑ کی چھال چھیلتا ہے

لچھمن لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو۔ جھٹ پٹ سبق یاد کرو

دھیان لگا کر پڑھو

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

سبق ١٩



ک	کھ	راکھ	کھیل	دیکھو
گ	گھ	گھر	گھاس	گھی

یہ اچھّن کا گھر ہے ۔ وہ اُس کے
باپ کا گھوڑا ہے ۔ گھوڑا گھاس کھا رہا
ہے ۔ اچھّن کھیلتا ہے ۔
اُس کے پاس کِھلونے رکھے ہیں ۔

اُس کے ہاتھ میں موٹر ہے

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۲۰



بچھّو



مکھّی

پت۔ تھر پتھّر	چ۔ چھر چھچھّر	چٹ۔ ٹھی چِٹھّی	بِچ۔ چھو بِچھّو
سال گرہ دیکھوں	تُمہاری دوستوں	دعوت بھیج	چِٹھّی اچھّا

نظیر کل تمہاری سال گرہ ہے۔ تم چاہو تو اپنے دوست کو دعوت دو ۔ ابّا جان میں نے چِٹھّی لکھ کر آپ کی میز پر رکھ دی ہے

اچھّا لاؤ ۔ دیکھوں تم نے کیا لِکھا ہے

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق

واہ تمہارا خط تو بہت اچھّا ہے
جاؤ اِسے جلد بھیج دو۔

اچھّے دوست، رام نارائن!

کل میری سالگرہ ہے۔ اور کل چُھٹی بھی ہے کیا تُم کل صبح میرے گھر آسکتے ہو۔ اپنے ابّا سے پوچھ کر جواب دو۔ سب دوست آرہے ہیں۔ مل کر خوب کھیلیں گے۔

تمہارا دوست

نظیر

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

سبق ۲۱



خود — خوان — پڑھو — اسکول

خوش — خواجہ — دیکھو — دولت

خوشی خوشی سے اسکول جاؤ۔ اور سبق دل لگا کر پڑھو۔ یہ خوان تو بہت بڑا ہے

وہ دیکھو خواجہ صاحب آرہے ہیں

اُن کو سلام کرو

اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۲۲



ایک بوڑھا راستہ سے گذر رہا تھا
یکایک بڑے زور کی آندھی آئی اور اُس
کے سر پر سے ٹوپی اُڑا لے گئی۔ بے چارہ
خوب رویا پیٹا۔ لیکن دوڑ نہ سکتا تھا
کچھ لڑکے اسکول جارہے تھے۔ وہ اُس پر
ہنسنے لگے۔ محمود بڑا نیک لڑکا تھا اُس نے
دوڑ کر بوڑھے کی ٹوپی لادی

بوڑھے بڑوں کی دُعا لو

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

سبق ۲۳



ساجد: کہو بی چڑیا آج کل تم کیوں نظر نہیں آتیں؟ دن بھر کہاں رہتی ہو دو روز سے غائب ہو۔ آخر بتاؤ تو گھر نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔

چڑیا: میاں کیا بتاؤں۔ میں تو بڑی مشکل میں پڑی ہوں

کوئی ظالم میرے بچّے لے گیا۔

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

چوں چوں چیں چیں

چڑیا بولی چیں چیں چیں چیں
میرے بچّے چیں چیں چیں چیں

لے گیا کوئی چیں چیں چیں چیں
کون بتائے چیں چیں چیں چیں

چوہیا بولی چوں چوں چوں چوں
سب کچھ جانوں چوں چوں چوں چوں

پر نہ بتاؤں چوں چوں چوں چوں
میں ڈرتی ہوں چوں چوں چوں چوں

چڑیا بولی چیں چیں چیں چیں
ہم تم نہیں چیں چیں چیں چیں

تم ہو چوں چوں میں ہوں چیں چیں
جلد بتاؤ چیں چیں چیں چیں چیں چیں چیں چیں

ساجد: بی چڑیا تم نہ گھبراؤ تمہارے بچّے اُڑنا سیکھ گئے ہیں۔ وہ یہیں کسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھے ہوں گے۔

دیکھو ابھی مِل جائیں گے۔

Scanned by TapScanner

سبق ۲۴



کسی چھوٹے سے تالاب میں ایک کچھوا
اور دو بگلے رہتے تھے۔ ان تینوں میں بڑی
دوستی تھی۔ ایک سال بارش کم ہوئی
اور تالاب کا پانی سوکھنے لگا تو کچھوے
کو فکر پیدا ہوئی اس نے بگلوں سے کہا
بھائی! اگر سب پانی سوکھ گیا تو تم تو کسی اور
تالاب کو چلے جاؤ گے

لیکن میں کیا کروں گا

بگلوں نے کہا بھائی تم مت گھبراؤ
ہم تمہیں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ لے
جائیں گے. جب تالاب کا پانی سوکھ گیا وہ
برابر کے کھیت میں سے ایک لکڑی لے
آئے اور کچھوے سے کہا. تم اس لکڑی
کو اپنے منہ میں پکڑ لو. ہم دونوں تمہیں
اڑا لے جائیں گے. غرض کچھوے نے
ایسا ہی کیا. لکڑی کو اپنے منہ میں پکڑ لیا
اور بگلے اُسے اپنے ساتھ اڑا لے گئے

سبق ۲۵



ریل چلاؤ چھک چھک چھک چھک

چھک چھک چھک چھک چھک چھک چھک چھک

آؤ نیا ایک کھیل رچائیں اپنے سب کی ریل بنائیں

کوئلے پانی بغیر چلائیں منہ سے بولو چھک چھک

علی بنو تم انجن آؤ باقی سب ڈبے بن جاؤ

چھک چھک چھک چھک چھک چھک ....

میں بن جاوں بریک تمہارا ریل چلاؤ چھک چھک

چھک چھک چھک چھک چھک چھک


ہاتھ میں چھوٹی جھنڈی لے کر　　منہ سے سیٹی تیز بجاؤ
پہیّوں جیسے ہاتھ گھماؤ　　ریل چلاؤ چھک چھک
چھک چھک چھک چھک　　چھک چھک ....

راہ میں ندی آجائے تو　　باندھ کے پُل اوپر سے اُس کے
پار میں تم جھٹ لے جاؤ　　ریل چلاؤ چھک چھک
چھک چھک چھک چھک　　چھک چھک .....

ہم کو اونچے پہاڑ نہ روکیں　　چیر کے اُن سے پار نکالو
اونچی نیچی ٹیڑھی ترچھی　　ریل چلاؤ چھک چھک
چھک چھک چھک چھک　　چھک چھک ....

جھنڈی دیکھو لال اگر تم　　انجن اپنا جھٹ ٹھہرا دو
میں بھی اپنا بریک لگا دوں　　ریل چلاؤ چھک چھک
چھک چھک چھک چھک
چھک چھک چھک چھک

سبق ۲۶



بِلّی بولی مِیاؤں مِیاؤں
کِس کی خوبی کے گُن گاؤں

مینڈک بولا ڈراؤں ڈراؤں
اندر جاؤں نہ باہر آؤں
تو ہے بِلّی کپٹی میاؤں
تیرے دھوکے میں نہ آؤں ۔ بِلّی بولی
چوہا بولا میں آجاؤں
ناچوں کو دوں دھوم مچاؤں

Scanned by TapScanner

کھیل تماشے کئی دِکھلاؤں
چُوں چُوں کا پھر گیت سُناؤں　　بِلی بولی
ماں بولی کہتی ہے میاؤں
باہر آوے کِس کو کھاؤں
تو تو نہ جانا واری جاؤں
کیٹی ہے یہ بِلّی میاؤں　　بِلّی بولی
ماں کو دھوکہ دے کر جاؤں
پہنچا جہاں بیٹھی تھی میاؤں
جیسے بولا چُوں چُوں جاؤں
بِلّی جھپٹی کہہ کر میاؤں　　بِلّی بولی
پھر وہ بولی واری جاؤں
سُن لے تجھکو سچ بتلاؤں
اُس کی خوبی کے گُن گاؤں

ہڈی پسلی جس کی کھاؤں　بلی بولی میاؤں میاؤں

سبق ۲۷



آؤ آؤ چھوٹے تارو
ہم تم مِل کر کھیلیں پیارو

ہم بھی چھوٹے ، تم بھی چھوٹے
ہم بھی اچھّے ، تم بھی اچھّے
ہم بھی ننّھے ، تم بھی ننّھے
ہم بھی مُنّے ، تم بھی مُنّے

.... آؤ آؤ ....

Scanned by TapScanner

ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آؤ
صف میں پیر بڑھا کر آؤ
کھیلتے آؤ، کودتے آؤ
گھومتے آؤ، جھومتے آؤ آؤ آؤ

تُم سے سارا آسمان روشن
تُم سے ہمارا گھر ہے روشن
تُم ہو سارے جگ کے پیارے آؤ آؤ
ہم اپنے ماں باپ کے پیارے آؤ آؤ

تھوڑے آؤ سب آجاؤ
روشنی اپنی ساتھ لے آؤ
آؤ آنکھ مچولی کھیلیں
لنگڑے بن کر کھیلیں کودیں آؤ آؤ

—— مولف

سبق ۲۸

احمد بڑا نیک لڑکا ہے
صاف اور سُتھرا رہتا ہے
وقت پر مدرسے جاتا ہے
سبق دِھیان سے پڑھتا ہے
بڑوں کا ادب کرتا ہے
ماں باپ کی خدمت کرتا ہے
سب کی بات غور سے سنتا ہے
خود بہت کم بولتا ہے
بُروں سے دور رہتا ہے
اُسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے
سب لوگ اُسے چاہتے ہیں

Scanned by TapScanner

اللھم اوصل الثواب الی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین

الی روحہا ام معیز صاحب معیز صاحب غفر اللہ لہ آمین [illegible]

اردو

اُردو کی تعلیم کو آسان بنانے کیلئے یہ قاعدہ جو بولتا قاعدہ کے نام سے موسوم ہے.
مولوی شیخ چاند صاحب بی اے نے بڑی کوشش اور کاوش سے دو حصوں میں تالیف کیا ہے.
جسے ایک منتخب کمیٹی کی نظر ثانی اور ترمیم کے بعد شائع کیا.

اس قاعدہ کی چند خصوصیات یہ ہیں

۱. شروع میں ایسے الفاظ لئے گئے ہیں جن کو عام فہم تصویروں کے ذریعہ بتایا جا سکتا ہے.

۲- ہر لفظ سے دو دو اور تین مختلف معنی نکلتے ہیں. اور ان کے ذریعہ بہت جملے بنائے جا سکتے ہیں.

۳- جملے ایسے بنائے گئے ہیں جنھیں بچے دن رات بولتے ہیں.

۴- الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں تاکہ آسانی سے ذہن نشین ہو جائیں

۵- ابتداء میں عربی کے کم مستعمل حروف ث ح ذ ص ض وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے

اُمید ہے کہ اُردو، زبان کی تعلیم میں یہ قاعدہ مفید ثابت ہو گا اس کی نظر ثانی کا کام جناب ڈاکٹر سید محی الدین قادری صاحب پروفیسر اُردو، جامعہ عثمانیہ کے زیر صدارت مولوی ملک سردار علی صاحب بی اے بی ٹی. پروفیسر عثمانیہ ٹریننگ کالج مولوی سید محمد صاحب ایم اے لکچرر اردو سٹی کالج اور مولوی سید نور الحسن صاحب بی ٹی ڈپ ایڈ صدر مدرس مدرسہ فوقانیہ دار الشفاء نے انجام دیا ہے جن کے لئے اُن سب اصحاب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے.

سید محمد اعظم

ناظم تعلیمات محروسہ سرکار عالی

Scanned by TapScanner